

# Psa

## Chapter 80

Urdu Interlinear

Reference: Urdu Geo Version

1	לְמִנְצַח	אֵל-	שֹׁשְׁנִים	עֲדוּת	לְאֶסְף	מִזְמוֹר:	רָעָה	וְיִשְׂרָאֵל	הָאֲזִינָה	זָהֵן
	ل-موسیقی-کے-سالار	عل	سوسنوں	گواہی	ل-آساف	زبور	چرواہے	اسرائیل	کان-لگا	لے-چلنے-والے
	<a href="#">H5329</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H7802</a>	<a href="#">H7802</a>	<a href="#">H0623</a>	<a href="#">H4210</a>		<a href="#">H3478</a>	<a href="#">H0238</a>	
	כִּצְאוֹן	יוֹסֵף	יִשָּׁב	הַכְּרוֹבִים	הַזְּפִיעָה:					
	مانند-بھیڑوں	یوسف	بیٹھنے-والے	کروبیموں	جلوہ-دکھا					
	<a href="#">H6629</a>	<a href="#">H3130</a>	<a href="#">H3427</a>	<a href="#">H3742</a>	<a href="#">H3313</a>					

ہے، کرتا راہنمائی طرح کی ریوڑ کی یوسف جو ٹو دے! دھیان پر ہم بان، گلہ کے اسرائیل اے سوسن۔ کے عہد طرز: لئے۔ کے راہنما کے موسیقی زبور۔ کا آسف چمکا! نور اپنا ہے، نشین تخت درمیان کے فرشتوں کروبی جو ٹو کر! توجہ پر ہم

2	לְפָנַי	אֶפְרַיִם	וּבְנֵימִן	וּמְנַשֶּׁה	עוֹזֵרָה	אֶת-	נְבוֹרָתָךְ	וּלְכָה	לִישְׁעָתָה	לָנוּ:
	ل-سامنے	افرائیم	اور-بنیامین	اور-منسی	جگا	کو	اپنی-طاقت	اور-آ	ل-نجات	ل-ہم
	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0669</a>	<a href="#">H1144</a>	<a href="#">H4519</a>	<a href="#">H5782</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H1369</a>	<a href="#">H3212</a>	<a href="#">H3444</a>	

آبجانے ہمیں لا۔ میں حرکت کو قدرت اپنی سامنے کے منسی اور یمین بن افرائیم،

3	אֱלֹהִים	הַשִּׁבְבוֹ	וְהָאֵר	פְּנִיךָ	וּנְשָׁעָה:					
	خدا	بحال-کر-ہمیں	اور-روشن-کر	اپنا-چہرہ	اور-بچائے-جائیں-گے-ہم					
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3467</a>					

گے۔ پائیں نجات ہم تو چمکا نور کا چہرے اپنے کر۔ بحال ہمیں اللہ، اے

4	יְהוָה	אֱלֹהִים	צְבָאוֹת	עַד-	מָתִי	עֲשֵׂנָה	בְּחַפְלָת	עֲמֹד:		
	یہوواہ	خدا	لشکروں-کا	تک	کب	دھوئیں-رہے-گا-ٹو	ب-دعا	اپنی-قوم-کی		
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H4970</a>	<a href="#">H6225</a>	<a href="#">H8605</a>				

ہے؟ ربی کر التجا سے تجھ قوم تیری حالانکہ گا، رہے بھڑکتا تک کب غضب تیرا خدا، کے لشکروں رب، اے

5	הֶאֱכִילְתָם	לֶחֶם	רִמְעָה	וְאִיכִינוּ	בְּדַמְעוֹת	שְׁלִישׁ:				
	کھلایا-ٹو-نے-انہیں	روٹی	آنسوؤں-کی	اور-پلایا-ٹو-نے-انہیں	ب-آنسوؤں	بہت				
	<a href="#">H0398</a>	<a href="#">H3899</a>	<a href="#">H1832</a>	<a href="#">H8248</a>	<a href="#">H1832</a>					

پلایا۔ خوب پیالہ کا آنسوؤں اور کھلائی روٹی کی آنسوؤں انہیں نے ٹو

6	וְשִׁמְנוֹ	מִדּוֹן	לְשִׁכְנֵינוּ	אֲזִיכִינוּ	לְעֵינֵינוּ-	לָמוּ:				
	بنایا-ٹو-نے-ہمیں	جھگڑا	ل-ہمارے-پڑوسیوں	اور-ہمارے-دشمن	مذاق-اڑاتے-ہیں	ل-آن-پر				
	<a href="#">H4066</a>	<a href="#">H7934</a>	<a href="#">H0341</a>	<a href="#">H3932</a>						

ہیں۔ اڑاتے مذاق ہمارا دشمن بنا یا۔ نشانہ کا جھگڑوں کے پڑوسیوں ہمیں نے ٹو

7	אֱלֹהִים	צְבָאוֹת	הַשִּׁבְבוֹ	וְהָאֵר	פְּנִיךָ	וּנְשָׁעָה:				
	خدا	لشکروں-کا	بحال-کر-ہمیں	اور-روشن-کر	اپنا-چہرہ	اور-بچائے-جائیں-گے-ہم				
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3467</a>					

گے۔ پائیں نجات ہم تو چمکا نور کا چہرے اپنے کر۔ بحال ہمیں خدا، کے لشکروں اے

8	גִּפְן	מִמְצָרִים	תִּסְיֶעַ	תִּנְרָשׁ	גְּזוֹם	וְתִשְׁעָה:				
	انگور	من-مصر	لایا-ٹو-نے	نکال-دیا-ٹو-نے	قوموں-کو	اور-لگایا-آسے				
	<a href="#">H1612</a>	<a href="#">H4714</a>	<a href="#">H5265</a>	<a href="#">H1644</a>	<a href="#">H5193</a>					

لگائی۔ جگہ کی اُن بیل یہ کر بھگا کو اقوام کی وہاں نے ٹو لایا۔ کنعان ملک کر اُکھاڑ ٹو اُسے تھی ربی اُگ میں مصر بیل جو کی انگور

9	פְּנִית	לְפָנֶיהָ	וַתִּשְׂרַשׁ	שָׂרְשִׁיהָ	וַתַּמְלֵא	אֶרֶץ:
	صاف-کیا-ٹو-نے	ل-سامنے-اُس-کے	اور-پنجایا-ٹو-نے	اُس-کی-جڑیں	اور-بھر-گئی	زمین
	<a href="#">H6437</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H8327</a>	<a href="#">H8328</a>	<a href="#">H4390</a>	<a href="#">H0776</a>

گئی۔ پھیل میں ملک پورے کر پکڑ جڑ وہ تو کی تیار زمین لئے کے اُس نے ٹو

10	כֶּסֶף	הָרִים	צִלָּה	וְעֵנְפֵיהָ	אֶרְצוֹ	אֵל:
	ڈھانپ-دیا	پہاڑوں-نے	اُس-کا-سایہ	اور-اُس-کی-شاخیں	دیوداروں	ایل-کے
	<a href="#">H3680</a>	<a href="#">H2022</a>	<a href="#">H6738</a>	<a href="#">H6057</a>	<a href="#">H0730</a>	<a href="#">H0410</a>

لیا۔ ڈھانک کو درختوں عظیم کے دیودار نے شاخوں کی اُس اور گیا، چھا پر پہاڑوں سایہ کا اُس

11	תְּשֻׁלָּח	קְצִירָהּ	עַד-	יָם	וְאֵל-	וְיִנְקוּתֶיהָ:
	پھیلائیں-اُس-نے	اُس-کی-ڈالیاں	تک	سمندر	اور-اِل	اُس-کی-کونپلیں
	<a href="#">H7971</a>	<a href="#">H5704</a>	<a href="#">H3220</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H5104</a>	<a href="#">H3127</a>

گئیں۔ پہنچ تک فرات دریائے میں مشرق ڈالیاں کی اُس گئیں، پھیل تک سمندر میں مغرب ٹہنیاں کی اُس

12	לְמַה	פָּרַצְתָּ	גְּדִירָהּ	אֶאוֹרוֹ	כָּל-	עֲבָרֵי	דָּרָךְ:
	کیوں	ٹوڑ-ڈالیں-ٹو-نے	اُس-کی-باڑیں	اور-ٹوڑیں-اُسے	سب	گزرے-والے	راہ-سے
	<a href="#">H4100</a>	<a href="#">H6555</a>	<a href="#">H1447</a>	<a href="#">H0717</a>	<a href="#">H3605</a>	<a href="#">H1870</a>	

بے۔ لیتا توڑ انگور کے اُس والا گزرے بر اب دی؟ گرا کیوں چار دیواری کی اُس نے ٹو

13	יְכַרְסֶמְנָה	חֲזִיר	מִיעַר	וְזֵי	שָׂרֵי	יְרַעְנָה:
	کھودے-گا-اُسے	سور	من-جنگل	اور-جانور	میدان-کا	چرے-گا-اُسے
	<a href="#">H3765</a>	<a href="#">H2386</a>				

بیں۔ چرتے وہاں جانور کے میدان کھلے کرتے، تباہ کر کھا کھا اُسے سؤر کے جنگل

14	אֱלֹהִים	צְבָאוֹת	שׁוֹב-	נָא	הֲבַט	מִשְׁמַיִם	וּרְאֵה	וּפְקֹד	נֶפֶן	זָאת:
	خدا	لشکروں-کا	لوٹ	براہ-کرم	دیکھ	من-آسمانوں	اور-دیکھ	اور-نگاہ-رکھ	انگور-کو	اِس
	<a href="#">H0430</a>	<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H5027</a>	<a href="#">H8064</a>	<a href="#">H7200</a>	<a href="#">H1612</a>	<a href="#">H2063</a>		

کر۔ بھال دیکھ کی بیل اِس دے۔ دھیان پر حالات کر ڈال نظر سے آسمان فرما! رجوع دوبارہ طرف ہماری خدا، کے لشکروں اے

15	וְכִנָּה	אֲשֶׁר-	נִטְעָה	יְמִינָהּ	וְעַל-	בֵּין	אֲמָצֵתָהּ	לְךָ:
	اور-تنے	جسے	لگایا	تیرے-دہنے-ہاتھ-نے	اور-عَل	بیٹے	مضبوط-کیا-ٹو-نے	ل-اپنے
	<a href="#">H3657</a>	<a href="#">H5193</a>	<a href="#">H3225</a>				<a href="#">H0553</a>	

بے۔ پالا لئے اپنے نے ٹو جسے کو بیٹے اُس لگایا، میں زمین نے ہاتھ دہنے تیرے جسے رکھ محفوظ اُسے

16	שָׂרְפָה	בָּאֵשׁ	כֶּסוּחָהּ	מִזְעֶרֶת	פְּנִיָּהּ	יֵאבְדוּ:
	جلا-ہوا	پ-اگ	کاٹا-ہوا	من-ڈانٹ	تیرے-چہرے-کی	فنا-ہوں-گے
	<a href="#">H8313</a>	<a href="#">H0784</a>	<a href="#">H3683</a>	<a href="#">H1606</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H0006</a>

بیں۔ جاتے ہو ہلاک لوگ سے ڈپٹ ڈانٹ کی چہرے تیرے بے۔ ہوا آتش نذر کر کٹ وہ وقت اِس

17	תְּהִי-	יָדָךְ	עַל-	אִישׁ	יְמִינָהּ	עַל-	בֶּן-	אָדָם	אֲמָצֵת	לְךָ:
	ہو-جائے	تیرا-ہاتھ	عَل	آدمی	تیرے-دہنے-ہاتھ-کے	عَل	بیٹے	آدم	مضبوط-کیا-ٹو-نے	ل-اپنے
	<a href="#">H1961</a>	<a href="#">H3027</a>	<a href="#">H0376</a>	<a href="#">H3225</a>			<a href="#">H0120</a>	<a href="#">H0553</a>		

تھا۔ پالا لئے اپنے نے ٹو جسے کو زاد آدم اُس دے، پناہ کو بندے کے ہاتھ دہنے اپنے ہاتھ تیرا

18	וְלֹא-	נִסּוּג	מִמֶּנָּה	תְּחַיֶּנּוּ	וּבְשִׁמּוֹךְ	נִקְרָא:
	اور-نہیں	بڑکیں-گے-ہم	من-تجھ	زندہ-رکھ-ہمیں	اور-پ-تیرے-نام	پکاریں-گے-ہم
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H5472</a>	<a href="#">H2421</a>	<a href="#">H8034</a>	<a href="#">H7121</a>	

گے۔ پکاریں نام تیرا ہم تو آئے جان میں جان ہماری کہ دے بخش گے۔ جائیں ہو نہیں دُور سے تجھ ہم تب

19	יְהוָה	אֱלֹהֵי	צְבָאוֹת	הַשָּׁמַיִם	הַיָּמִינִי	הָאֵר	פָּנָיִךְ	וּבְנִשְׁעָה:
	یہوواہ	خدا	لشکروں- کا	بحال- کر- ہمیں	روشن- کر	اپنا- چہرہ	اور- بجائے- جائیں- گے- ہم	
	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0430</a>		<a href="#">H7725</a>	<a href="#">H0215</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H3467</a>	

گے۔ پائیں نجات ہم تو چمکا نور کا چہرے اپنے کر۔ بحال ہمیں خدا، کے لشکروں رب، اے